

حکومت پاکستان
بینظیر انکم سپورٹ پروگرام

پریس ریلیز

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 924,063 سیلاب متاثرین میں 23
ارب روپے سے زائد کی رقم تقسیم

بینظیر انکم سپورٹ پروگرام 81 فیصد شناخت شدہ خاندانوں میں مالی معاونت
تقسیم کر چکا ہے

اسلام آباد: (11 ستمبر، 2022) – بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے 924,063 خاندانوں میں 23,101,575,000 روپے تقسیم کئے جاچکے ہیں۔ اب تک کل شناخت شدہ خاندانوں میں سے 81 فیصد کو رقم کی ادائیگی کی جا چکی ہے۔ بی آئی ایس پی کی سینٹر انتظامیہ سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں میں قائم خصوصی ادائیگی کیمپوں پر امدادی رقم کی تقسیم کے عمل کی نگرانی کر رہی ہے۔

سیلاب متاثرین بڑی تعداد میں امدادی رقم کے حصول کیلئے ادائیگی کیمپوں کا دورہ کر رہے ہیں جو مالی امداد کی منصفانہ اور شفاف ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ ادائیگی کیمپوں پر تعینات بی آئی ایس پی کا عملہ پوری طرح متحرک ہے اور امدادی نقد رقم کی تیزی سے تقسیم کو یقینی بنا رہا ہے۔

بلوچستان میں 112,485 خاندانوں کو 2,812,125,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ سندھ میں 550,235 خاندانوں کو 13,755,875,000 روپے مل چکے ہیں؛ خیبرپختونخواہ میں 114,077 خاندانوں کو 2,851,925,000 روپے مل چکے ہیں اور پنجاب میں 147,266 خاندانوں کو 3,681,650,000 روپے موصول ہوئے ہیں۔ اتوار کے روز بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مختلف کیمپوں سے 5,691 سیلاب متاثرین نے اپنی ادائیگیاں وصول کیں ہیں۔

ملک میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قائم 377 خصوصی کیمپس کے ذریعے اب تک کل شناخت شدہ خاندانوں میں سے 81.37 فیصد خاندانوں میں امدادی رقم تقسیم کی جا چکی ہے۔

متاثرہ خاندان فلڈ ریلیف کیش اسسٹینس پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 8171 پر بھیج سکتے ہیں اور ادائیگی کا پیغام موصول ہونے پر وہ اپنی رقم حاصل کرنے کے لیے اپنے قریبی کیمپ سائٹ پر جا سکتے ہیں۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انتظامیہ نے کیمپ سائٹس پر موجود متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کیساتھ مکمل تعاون کریں۔